

## روزول کے اہم ترین مسائل

ادارہ

### نیت کے مسائل:

زبان سے نیت کرنا اور کچھ کہنا ضروری نہیں۔ بلکہ جب دل میں یہ دھیان ہو گیا کہ آج میرا روزہ ہے اور پھر دن بھرنہ کچھ کھایا پیا اور نہ ہی صحبت کی تو روزہ ہو گیا۔ اگر زبان سے نیت کرے تو بہتر ہے کہ میں کل روزہ رکھوں گا خواہ عربی میں کرے یا اردو میں۔

نیت وارا دہ کے بغیر اگر دن بھر بھوکا، پیاسا سارا ہا کہ کھانے پینے کا خیال ہی نہ آیا پھر خواہش ہی نہ ہوئی، تو روزہ نہ ہو گا۔ رمضان کے روزے کی نیت رات سے کر لینا بہتر ہے اور رات کو نہ کی تو دن کو زوال سے ایک گھنٹہ پہلے تک کر سکتا ہے بشرطیکہ کچھ کھایا پیا نہ ہو۔

- رمضان میں فرض روزے کے علاوہ کوئی اور روزہ رکھا تو بھی اسی رمضان کا فرض روزہ ہی ادا ہوگا۔

### سمسری کے مسائل:

- سحری کھانا مستحب ہے اگر بھوک نہ ہوتا بھی تھوڑا بہت چکلی نہیں چاہیے تاکہ سحری کا ثواب مل جائے۔
- سحری حتی الامکان آخری وقت میں کھانی چاہیے۔ سحری کھاتے ہوئے وقت ختم ہو جائے یا اذان شروع ہو جائے تو کھانا بند کر دینا چاہیے، اذان کے آخر تک کھانے رہنا یا برتن صاف کرنا غلط ہے اس سے روزہ نہ ہوگا۔
- سحری نہ کھانے کی وجہ سے روزہ چھوڑ دینا کم ہمتی کی بات ہے اس سے گناہ ہوتا ہے۔

### افطار کے مسائل:

- کھبور یا میٹھی چیز سے روزہ افطار کرنا چاہیے، اگر دونوں نہ ہوں تو پانی سے افطار کیا جائے۔ نمک سے افطار کی کو ثواب سمجھنا غلط ہے۔
- سحری کو محلے میں آخری اذان دینے والے کے ساتھ رکھنا اور افطار کی میں جو بھی پہلے اذان دے، فوراً افطار کر لینا د رست نہیں بلکہ سحری و افطار کی واقعات کا پابند رکھنا چاہیے، گھریلوں کو معیاری وقت کے مطابق رکھنا چاہیے اور ایک آدھ منٹ کی احتیاط بر ت لین چاہیے تاکہ شبہ پیدا نہ ہو۔

### جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے:

- کان و ناک میں دواڑا لانا۔ ● قصد آمنہ بھر کر قے کرنا۔ ● انسزال ہو جانا۔
- کلی کرتے ہوئے حلق میں پانی چلا جانا۔ ● رات سمجھ کر صبح کے بعد سحری کھانا۔

- کوئی ایسی چیز نگل لیمنا جو عام طور سے کھائی نہیں جاتی مثلاً لکڑی، کپا گیہوں وغیرہ۔
- دن باقی تھا مگر غلطی سے یہ سمجھ کر آفتاب غروب ہو گیا ہے روزہ اظہار کرنا۔  
ان سب چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے مگر صرف قضا واجب ہوتی ہے کفارہ لازم نہیں ہوتا۔

**روزہ ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے کا معیار:**

اگر کوئی شے جسم کے کسی جوف میں قدرتی یا مصنوعی مخترق و راستہ (Opening) سے جان بوجھ کر یا غلطی سے داخل کی جائے مسام سے نہیں اور اس جوف میں ٹھہر جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے الیہ کہ کہیں ضرورت اور مجبوری کا تقاضا ہو کہ روزے کے ٹوٹنے کا حکم نہ لگایا جائے۔

#### متفرق مسائل:

- رمضان کے مہینے میں اگر کسی کاروبار کا روزہ اتفاقاً ٹوٹ گیا تو روزہ ٹوٹنے کے بعد بھی دن میں کچھ کھانا پینا درست نہیں۔ سارا دن روزہ داروں کی طرح رہنا واجب ہے۔ کسی نے رمضان میں روزے کی نیت ہی نہیں کی اس لیے کھاتا پیتا رہا اس پر کفارہ واجب نہیں۔ کفارہ جب ہے کہ نیت کر کے روزہ رکھ لینے کے بعد اس کو توڑ دے۔
- اگر کسی نے شامت اعمال سے روزہ نہ رکھا تو اور لوگوں کے سامنے کچھ کھائے نہ پیئے نہ یہ ظاہر کرے کہ میرا آج روزہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ گناہ کر کے اس کو ظاہر کرنا بھی گناہ ہے اگر ظاہر کردے گا تو وہ را گناہ ہو گا ایک تو روزہ نہ رکھنے کا دوسرا گناہ ظاہر کرنے کا۔
- جب لڑکا یا لڑکی روزہ رکھنے کے لائق ہو جائیں تو ان کو بھی روزہ رکھنے کا حکم کرے اور جب دس برس کے ہو جائیں تو مارکر روزہ رکھائے اگر سارے روزے نہ رکھ سکتے تو جتنے رکھ سکر رکھائے۔

روزہ کی حالت میں حقہ سیگریٹ پینے سے کفارہ اور قضا و دنوں واجب ہوں گے۔ اسی طرح اوبان وغیرہ کوئی دھونی سلاگائی پھر اس کو اپنے پاس رکھ کر سونگھا تو روزہ جاتا رہا اور قضا اور کفارہ دنوں واجب ہوں گے۔ اگر سرمه لگایا خون نکلوایا تیل ڈالا پھر سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا اور پھر قصداً کھالیا تو قضا اور کفارہ دنوں لازم ہیں۔

#### جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا:

لیکن اگر ان چیزوں کے کرنے میں ڈر ہو کہ کہیں روزہ ٹوٹنے تک نوبت نہ پہنچ جائے تو ان کو کرنا روزہ کے لیے مکروہ ہو گا۔ اگر روزہ دار بھول کر کچھ کھائے یا پی لے یا بھولے سے جماع کر لے تو اس کا روزہ نہیں گیا۔ اگر چ پیٹ بھر کر کھائے۔ اگر بھول کر کئی دفعہ کھا پی لیا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔

ایک شخص کو بھول کر کچھ کھاتے پیتے دیکھا تو اگر وہ اس قدر طاقت ور ہے کہ روزہ سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی ہے تو روزہ یاددا ناوجب ہے یاددا نا مکروہ تحریکی ہے۔ اور اگر کوئی کمزور ہو کر روزہ سے تکلیف ہوتی ہے تو اس کو یاددا نہ کھانے دے۔  
حلق کے اندر کمھی چلی گئی یادھواں آپ ہی آپ چلا گیا یا گرد و غبار چلا گیا تو روزہ نہیں گیا۔ البتہ اگر قصداً ایسا کیا تو روزہ جاتا رہا۔

دانتوں میں گوشت کا ریشمہ اٹکا ہوا تھا یا چھالیہ کا ٹکڑا وغیرہ کوئی اور چیز تھی اس کو خلال سے دانتوں سے نکال کر کھا

ماہنامہ "تیقیبِ ختم نبوت" ملکان (جنون 2016ء)

دین و دانش

گیا لیکن منہ سے باہر نہیں نکالایا آپ، ہی آپ حلق میں چلی گئی تو دیکھو اگر پہنچنے سے کم ہے تب تو روزہ نہیں گیا اور اگر پہنچنے کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو جاتا رہا۔ البتہ اگر منہ سے باہر نکال لیا تھا اس کے بعد نگل گیا تو ہر حال میں روزہ ٹوٹ جائے گا چاہے وہ چیز پہنچنے کے برابر ہو یا اس سے بھی کم ہو۔ دونوں کا ایک ہی حکم ہے اور قضا واجب ہو گی کفارہ نہ ہو گا۔

اگر پان کھا کر خوب لکی، غرغہ کر کے منہ صاف کر لیا لیکن تھوک کی سرخی نہیں گئی تو اس کا کچھ رجح نہیں، روزہ ہو گیا۔ روزے میں تھوک نکلنے سے روزہ نہیں جاتا چاہے جتنا ہو۔

ناک کو اس زور سے سڑک لیا کہ حلق میں چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا، اسی طرح منہ کی رال سڑک کرنگل جانے سے روزہ نہیں جاتا۔ اسی طرح بلغم کو بھی نگل جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔

اگر زبان سے کوئی چیز چکھ کر تھوک دی تو روزہ نہیں ٹوٹا لیکن بے ضرورت ایسا کرنا مکروہ ترزیہ ہے۔ ہاں اگر کسی عورت کا شوہر بذلہ مزاج ہوا ریڈر ہو کہ سالن میں نہ کمر ج درست نہ ہو تو ناک میں دم کر دے گا، اس کو نک چکھ لینا درست ہے اور مکروہ نہیں۔ اپنے منہ سے چبا کر چھوٹے بچے کو کوئی چیز کھلانا مکروہ ترزیہ ہے۔ البتہ اگر اس کی ضرورت پڑے اور مجبوری و ناچاری ہو جائے تو مکروہ نہیں۔

روزہ دار نے دوا چکھی اور اس کا مزہ اپنے حلق میں پایا لیکن دوا حلق میں نہیں گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ان جاننا (دل کی طرف دوران خون کم ہو جانے) کے مریض اگر روزہ کی حالت میں (Angised) گولی زبان کے نیچے رکھ لیں اور اس کا خیال رکھیں کہ لعاب حلق کے نیچے اترنے پائے تو منہ کی اندر ونی تہہ سے اس کے جذب ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر لعاب حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہذا احتیاط بہتر ہے۔

منہ میں دوالگا ناشدید ضرورت کے وقت جائز ہے اور بلا ضرورت مکروہ ترزیہ ہے۔ اگر دو اپیٹ کے اندر چلی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔

کوئلہ چبا کر دانت صاف کرنا اور مجن بی پیٹ سے دانت صاف کرنا مکروہ ہے اور اگر اس میں سے کچھ حلق میں اتر جائے تو روزہ جاتا رہے گا اور مسواک سے دانت صاف کرنا درست ہے چاہے سوکھی مسواک ہو یا تازی اسی وقت کی توڑی ہوئی۔ اگر نیم کا مسواک ہے اور اس کا کڑوا پن منہ میں معلوم ہوتا ہے تب بھی مکروہ نہیں۔ مسواک کا کوئی ریشمہ اتفاق سے سانس کے ساتھ اندر چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ رات کو نہانے کی ضرورت ہوئی مگر غسل نہیں کیا، دن کو نہایا تب بھی روزہ ہو گیا بلکہ اگر دن بھرنہ نہائے تب بھی روزہ نہیں جاتا البتہ اس کا گناہ الگ ہو گا۔ کسی بھی قسم کا بیکھہ خواہ عضلاتی یا دریدی ہو گانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہاں تک کہ اگر کسی طبی ضرورت سے گلوکوز کی بوتل بھی چڑھائی جائے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ محض روزہ کی مشقت کم کرنے کے لیے Drip یعنی گلوکوز کی بوتل لگانا مکروہ ہے پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح خون چڑھانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نصد کھلوانے (Venesection) اور کسی مریض کے لیے خون دینے (Blood Donation) سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔

اگر آنسو یا پسینے کا ایک آدھ قطرہ منہ میں خود بخود چلا گیا اور نمکینی محسوس ہوئی تو روزہ نہیں ٹوٹا لیکن اگر اتنی زیادہ

## ماہنامہ "تیقیبِ ختم نبوت" ملکان (جنون 2016ء)

دین و دانش

مقدار میں آنسو یا پسینے منہ میں گیا کہ پورے منہ میں تملکتی محسوس ہوئی اور پھر اس کو نکل لیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔

دن کو سرمه لگانا، تیل لگانا، خوشبو سونگنا درست ہے۔ اس سے روزہ میں کچھ نقصان نہیں آتا جا ہے جس وقت ہو بلکہ اگر سرمه لگانے کے بعد تھوک یا رینٹھ میں سرمه کارنگ دکھائے دے تو بھی روزہ نہیں گیا، نہ مکروہ ہوا۔ آنکھ میں دواڑا لئے سے روزہ نہیں ٹوٹا اگر چہ دوا کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو۔

آپ ہی آپ قے ہو گئی خواہ تھوڑی ہو یا زیادہ یعنی منہ بھر کر ہوئی ہو پھر خواہ وہ منہ سے باہر نکل آئی ہو یا آپ ہی آپ حلق میں چل گئی ہو روزہ نہیں ٹوٹا۔

اگر کئی مجالس میں تھوڑی تھوڑی قے اپنے اختیار سے کی ہو یا ایک دفعہ صبح کو پھر دو پھر کو پھر شام کو قے کی ہو کہ اگر اس کو جمع کیا جائے تو منہ بھر ہونے کی مقدار کو پہنچ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سانس کے ذریعے آسکیجن لینے سے روزہ میں ٹوٹا۔

نہاتے ہوئے اگر پانی کاں میں خود بخون دچلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹا کیونکہ یہ اپنے اختیار سے باہر ہے۔ سر کے زخم میں دوالگانے سے روزہ نہیں ٹوٹا کیونکہ بیہاں سے دوا کی جوف میں داخل نہیں ہوتی۔ پیٹ کا زخم اگر معدہ یا آنت میں نہ کھل رہا ہو تو اس میں دوالگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹا۔

اگر تل یا اس کے برابر کی کوئی چیز اٹھا کر منہ میں ڈال لی اور اس کو منہ میں خوب چباتا رہا یہاں تک کہ اس کا کچھ پتہ نہیں رہا اور حلق میں مزہ محسوس نہ ہوا تو روزہ نہ ٹوٹے گا۔ (بلکہ یہ ماہنامہ دار التقویٰ، جون ۲۰۱۳ء)

☆ ہر مسلمان عاقل، بالغ مردو معورت پر فرض ہے کہ رمضان المبارک کا خود روزہ رکھنے اور اپنے متعلقین کو روزہ رکھنے کی تلقین کرے۔ چھوٹے بڑے گناہوں سے پرہیز کرے اور نماز باجماعت اور تراویح، تلاوت قرآن، درود شریف اور استغفار و توبہ کو وظیفہ بنائے۔ ☆ پندرہ برس سے کم عمر کا، اگر اس میں بلوغت کی دوسری علامت موجود نہ ہو تو تراویح میں بھی امام نہیں بن سکتا۔ ☆ تراویح میں قرآن پاک سنانے والے کو اجرت دینا جائز نہیں ایسے حافظ کے پیچھے قرآن سننے سے چھوٹی سورتوں کے ساتھ تراویح پڑھنا افضل ہے۔ ☆ ڈاڑھی منڈوانے اور شرعی مقدار سے کم رکھنے والے کے پیچھے نماز اور تراویح مکروہ تحریکی ہے۔ ☆ تراویح میں رکعت سنت ہیں۔ دو دو ایک نیت سے پڑھنا مستحب ہے۔ ☆ بلا ضرورت کوئی چیز چبانا، نہ مک وغیرہ کچھ کر تھوک دینا، ٹوٹھ پیسٹ یا مخن یا کونک سے دانت صاف کرنا روزہ میں مکروہ ہے۔ ☆ تمام دن حالت جنابت میں بغیر غسل کیے رہنا، فصد کرنا، کسی مریض کے لیے اپنا خون دینا اگر کمزوری سے روزہ ٹوٹنے کا ذرہ ہو تو مکروہ ہے۔ غیبت ہر حال میں حرام ہے، روزہ میں اس کا گناہ اور بڑھ جاتا ہے۔ روزہ میں اڑنا جھگڑنا، گالی دینا خواہ انسان ہو یا کسی بے جان کو یا جاندار کو ان سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ ☆ قے اگر منہ بھر کر بھی آئے اور باہر نکل جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ☆ سرڑھانپ کر نماز پڑھنا سنت متواترہ ہے۔ جان بوجھ کرنے نگے سر نماز پڑھنا اور اسے سنت قرار دینا گناہ ہے۔ ☆ صدقہ فطرہ ہر صاحب نصاب پر اپنا اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کرنا واجب ہے۔ ☆ صاحب حیثیت فی کس سماڑھے تین کلو کشمکش یا جو یا کھجور کی قیمت بھی ادا کر سکتے ہیں۔